



کیا میں تمہیں جو کچھ تم نے مانگا ہے، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ، یا فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ، تو تینتیس مرتبہ (33) سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ (33) الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ (34) اللہ اکبر پڑھ لینا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکی پیسنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے چھالے دکھانے کے لیے آئیں۔ دراصل ان کو اطلاع ملی تھی کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں آپ نے میں ملے، تو انہوں نے اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کر دیا۔ آپ جب تشریف لائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بتایا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: چنانچہ آپ نے ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔ ہم بستر پر جا چکے تھے کھڑے ہوئے لگے، تو فرمایا: "جہاں ہو، وہیں رہو" پھر آپ آکر میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے آپ نے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ میں محسوس کی آپ نے کہا: "کیا میں تمہیں جو کچھ تم نے مانگا ہے، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ، یا فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ، تو تینتیس مرتبہ (33) سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ (33) الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ (34) اللہ اکبر پڑھ لینا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد بزرگوار کو چکی پیسنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے چھالے کی شکایت کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، تو ان میں ایک قیدی مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو گھر میں آپ نہیں تھے، اس لیے جو کھانا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ کر واپس آ گئیں آپ تشریف لائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک خادم کی گزارش کے ساتھ حاضر ہوئی تھیں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہما کے گھر پہنچ گئے اس وقت دونوں بستر میں تھے اور ٹھنڈک اپنے پیٹ میں محسوس کی بعد ازاں فرمایا: تم دونوں نے مجھ سے خادم دینے کا جو مطالبہ کیا ہے، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ دونوں نے عرض کیا: ضرور بتائیں تب آپ نے فرمایا: جب تم دونوں رات میں سونے کے لیے بستر پر چلے جاؤ، تو 34 بار اللہ اکبر کہو 33 بار سبحان اللہ کہو 33 بار الحمد للہ کہو یہ ذکر تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

